

ROOTWORDS OF SURAH AN NAHL 1-11

خَصِيمٌ	الْأَنْعَمَ	دِفْءٌ	حِينَ	تَسْرَحُونَ
خ ص م	ن ع م	د ف ا	ح ي ن	س ر ح
جھڑالو ہے	چوپائے	گرمی کا سامان ہے	جس وقت	تم صبح چرانے جاتے ہو
an opponent	The cattle	warmth	when	you take them out

تَحْمِلُ	أَثْقَالَكُمْ	بَلَدٍ	بَلِّغِيْهِ	بِشَقٍّ
ح م ل	ث ق ل + ضمیر	ب ل د	ب ل غ + ضمیر	ح ر ف + ش ق ق
اٹھاتے ہیں	بوجھ + تمہارے	شہر کے	پہنچانے والے + اس کو	ساتھ + مشقت کے
they carry	Your loads	A land	reach it	with great trouble

الْخَيْلَ	الْبِغَالَ	الْحَمِيرَ	لِ + تَرَكَّبُوا + هَا	قَصْدُ
خ ي ل	ب غ ل	ح م ر	لام التعلیل + ر ک ب + ضمیر مفعول بہ	ق ص د
گھوڑے	نچر	گدھے	تاکہ + تم سواری کرو + ان پر	سیدھا
Horses	mules	donkeys	for you to ride them	the direction

الزَّرْع	تُسَيِّمُونَ	جَائِرٌ
ز ر ع	س و م	ج و ر
کھیتی کو	تم چراتے ہو	کچھ ٹیڑھے بھی ہیں
The crops	you pasture your cattle	crooked

Arabic